



انگلینڈ کے خلاف آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان

- پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ اور 3 ٹی ٹونٹی میچوں پر مشتمل سیریز ملائیشیا میں کھیلی جائے گی
- سیریز میں شامل تین ایک روزہ میچز آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ کا حصہ ہیں
- امید ہے قومی خواتین کرکٹ ٹیم آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ میں بہتر کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھے گی، چیف سلیکٹر عروج ممتاز
- سیریز کے تمام میچز پی سی بی کے یوٹیوب چینل پر لائیو اسٹریم کیے جائیں گے

لاہور، 27 نومبر 2019ء:

قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی نے انگلینڈ کے خلاف ایک روزہ اور ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے حتمی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ دونوں فارمیٹ کے لیے 15، 15 خواتین کھلاڑیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔

عروج ممتاز کی سربراہی میں قائم کردہ سلیکشن کمیٹی نے بنگلہ دیش کے خلاف ایک روزہ اور ٹی ٹونٹی اسکواڈز میں 4، 4 تبدیلیاں کی ہیں۔

دائیں ہاتھ کی بیٹر کائنات حفیظ اور آف اسپنر رامین شمیم کو پہلی بار قومی ایک روزہ خواتین کرکٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ ندا ڈار اور انعم امین کی ایک روزہ اسکواڈ میں واپسی ہوئی ہے۔

چاروں کھلاڑیوں کو ارم جاوید، کائنات امتیاز، سعدیہ اقبال اور ثناء میر کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔

دوسری جانب بنگلہ دیش کے خلاف ایک روزہ سیریز میں ڈیبیو کرنے والی 15 سالہ اسپنر عروب شاہ کو پہلی بار قومی خواتین ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔

آسٹریلیا میں بگ بیش لیگ کھیلنے والی پہلی پاکستانی خاتون کرکٹر ندا ڈار کی ٹی ٹونٹی اسکواڈ میں بھی واپسی ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے دوران اے سی سی ایمرجنگ ویمنز ٹیمز ایشیا کپ میں شرکت کی غرض سے بنگلہ دیش میں موجود فاطمہ ثناء اور رامین شمیم کو بھی انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے قومی ویمنز اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔

حتمی اسکواڈ کے اعلان سے قبل قومی خواتین کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ 21 نومبر سے حنیف محمد ہائی پرفارمنس سنٹر کراچی میں جاری ہے۔

پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ایک روزہ اور تین ٹی ٹونٹی میچوں پر مشتمل سیریز 9 سے 20 دسمبر تک ملائیشیا میں جاری رہے گی۔ تمام میچز کنرارا اوول، کوالالمپور میں کھیلے جائیں گے۔ سیریز میں شامل 3 ایک روزہ میچز آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ کا حصہ ہیں۔

8 ٹیموں پر مشتمل آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ کے پوائنٹس ٹیبل پر پانچویں پوزیشن پر موجود قومی خواتین کرکٹ ٹیم کا مقابلہ دوسرے نمبر پر موجود انگلینڈ کی ٹیم سے ہے۔ پاکستان ایک روزہ سیریز میں انگلینڈ کو شکست دے کر نیوزی لینڈ میں شیڈول آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ 2021 میں براہ راست رسائی حاصل کر سکتا ہے۔

آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ میں اب تک 15 میچز میں پاکستان 7 میں کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ 1 میچ برابر کرچکا جبکہ 7 میچوں میں قومی خواتین ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

آئندہ سال مکمل ہونے والی چیمپئن شپ کے پہلے مرحلے کے اختتام پر چار بہترین ٹیموں کو ورلڈکپ میں براہ راست رسائی ملے گی۔

عروج ممتاز، چیئر آف ویمنز سلیکشن کمیٹی:

عروج ممتاز کا کہنا ہے کہ قومی اور بین الاقوامی کرکٹ میں کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد اسکواڈز کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز کبھی بھی آسان نہیں ہوتی اور اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹیم تیاری کی گئی ہے۔

عروج ممتاز نے کہا کہ خواتین کھلاڑیوں کے پول میں اضافے کے سبب ٹیم سلیکشن میں وقت لگا۔ انہوں نے کہا کہ کئی کھلاڑیوں کو پہلی بار اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔

عروج ممتاز نے کہا کہ پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم، آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ میں بہتر کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں عمدہ کارکردگی کے باعث قومی کھلاڑیوں کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔

کھلاڑیوں کے نام:

ایک روزہ سیریز:

بسمعہ معروف (کپتان)، عالیہ ریاض، انعم امین، عروب شاہ، ڈیانا بیگ، فاطمہ ثناء، جویریہ خان، کائنات حفیظ، نابیدہ خان، نشرہ سندھو، ندا ڈار، عمیمہ سہیل، رامین شمیم، سدرہ امین اور سدرہ نواز۔

ٹی ٹوئنٹی سیریز:

بسمعہ معروف (کپتان)، عالیہ ریاض، انعم امین، عروب شاہ، عائشہ ظفر، ڈیانا بیگ، فاطمہ ثناء، ارم جاوید، جویریہ خان، نابیدہ خان، ندا ڈار، عمیمہ سہیل، رامین شمیم، سعیدہ اقبال اور سدرہ نواز۔

ٹیم آفیشلز:

عائشہ جلیل (ٹیم مینیجر)، سید اقبال امام (ہیڈ کوچ)، عبدالمجید (فیلڈنگ کوچ)، جمال حسین (اسٹریٹجی اینڈ کنڈیشننگ کوچ)، زبیر احمد (اینالسٹ)، ساجدہ فجر (فزیوتھراپسٹ) اور احسن افتخار ناگی (میڈیا مینیجر)۔

شیڈول:

9 دسمبر: پہلا ایک روزہ میچ، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ بمقام کنرار اکیڈمی اوول (آئی سی ویمنز چیمپئن شپ)

12 دسمبر: دوسرا ایک روزہ میچ، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ بمقام کنرارا اکیڈمی اوول (آئی سی ویمنز چیمپئن شپ)

14 دسمبر: تیسرا ایک روزہ میچ، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ بمقام کنرارا اکیڈمی اوول (آئی سی ویمنز چیمپئن شپ)

17 دسمبر: پہلا ٹی ٹونٹی میچ، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ بمقام کنرارا اکیڈمی اوول

19 دسمبر: دوسرا ٹی ٹونٹی میچ، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ بمقام کنرارا اکیڈمی اوول

20 دسمبر: تیسرا ٹی ٹونٹی میچ، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ بمقام کنرارا اکیڈمی اوول

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk